

جدید ایڈیشن

خاموش فتنوں اور ساری پریشانیوں کا یقینی علاج

40 استغفار
و
100 درود شریف

(مع ترجمہ و فوائد)

صبح و شام ایک ایک مرتبہ پڑھ لیجیے۔

مکتبہ ابن کثیر



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَیْهِ اُنِیْبُ ﴿۸۸﴾
 توفیق تو اللہ ہی سے ملے گی، اُسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اُسی
 کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ [سورہ ہود]

40

استغفار

صبح و شام ایک ایک مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔
 اس کی برکت سے دعائیں قبول ہوں گی۔ ان شاء اللہ
 نوٹ: بنا کئی زیادتی کے یہ کتاب چھاپنے کی میری طرف سے عام اجازت ہے۔

استغفار کی فضیلت

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں، جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

[ابوداؤد]

مرتب: اللہ کی رضا کا طالب



استغفار کے فوائد

- (1) گناہ معاف ہوں گے (سورہ نوح: 10)
- (2) بارش ہوگی (سورہ نوح: 11)
- (3) اولاد نصیب ہوگی (سورہ نوح: 12)
- (4) مال ملے گا (سورہ نوح: 12)
- (5) باغات ملیں گے (سورہ نوح: 12)
- (6) نہریں جاری ہوں گی (سورہ نوح: 12)
- (7) خوش حالی والی زندگی نصیب ہوگی (سورہ ہود: 3)
- (8) طاقت اور قوت ملے گی (سورہ ہود: 52)
- (9) مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہو (ابن ماجہ)
- (10) جو پابندی سے استغفار کرے گا تو اللہ اسے ہر غم اور ہر تکلیف سے نجات دے گا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا، جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

① استغفار

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ
أَتُوبُ إِلَيْهِ.

ترجمہ: میں اپنے پروردگار اللہ سے ہر گناہ سے معافی مانگتا ہوں
اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

② استغفار

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.

ترجمہ: میں عظمت والے اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اس کے علاوہ
کوئی عبادت کے لائق نہیں جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، پوری
کائنات سنبھالنے والا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

استغفار (۳)

رَبَّنَا آتِنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ترجمہ: ہمارے لیے ہماری روشنی کو کامل کر دیجیے اور ہماری
مغفرت فرمائیے۔

استغفار (۴)

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ
الرَّاحِمِينَ.

ترجمہ: اے میرے رب! مجھے بخش دیجیے اور مجھ پر رحم فرمائیے،
آپ بہترین رحم فرمانے والے ہیں۔

⑤ استغفار

رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ .

ترجمہ: اے میرے رب! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے پس
آپ مجھ کو بخش دیجیے۔

⑥ استغفار

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ
الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ .

ترجمہ: اے میرے رب! مجھے بخش دیجیے اور مجھ پر رحم
فرمائیے، یقیناً اللہ آپ سب سے زیادہ عزت دینے والے،
سب سے زیادہ سخی ہیں۔

④ استغفار

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطَايَايَ وَ ذُنُوْبِيْ كُلَّهَا.

ترجمہ: اے اللہ! میری بھول چوک اور تمام گناہوں کو معاف فرمادیجیے۔

⑧ استغفار

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَ تُبْ عَلَيَّ
اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

ترجمہ: اے اللہ! میرے گناہ بخش دیجیے اور میری توبہ قبول کر لیجیے، بے شک آپ ہی معاف کرنے والے، بڑے رحم والے ہیں۔

⑨ استغفار

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ، اَللّٰهُمَّ
اغْفِرْ لِيْ وَاهْدِنِيْ.

ترجمہ: اے اللہ! مجھے معاف فرمائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے۔
اے اللہ! مجھے بخش دیجیے اور مجھے ہدایت عطا فرمائیے۔

⑩ استغفار

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر
آپ ہم کو معاف نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کریں تو ہم نقصان
اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

۱۱) استغفار

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ
وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ .

ترجمہ: اے اللہ! آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور آپ کی رحمت مجھے میرے اعمال سے زیادہ امید بخش ہے۔

۱۲) استغفار

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اَشْهَدُ
اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَ
اَتُوبُ اِلَيْكَ.

ترجمہ: اے اللہ! تیری ذات پاک ہے اور تمام تعریف تیرے لیے ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تجھ ہی سے معافی مانگتا ہوں اور تیری ہی طرف ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں۔

(۱۳) استغفار

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ

وَ اَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِيْ صَغِيرًا۔

ترجمہ: اے اللہ! مجھے اور میرے والدین کو بخش دیجیے اور ان دونوں پر رحم فرمائیے، جیسا کہ انھوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم و کرم کا معاملہ کیا۔

استغفار (۱۴)

رَبَّنَا إِنَّنَا أَمْنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

ترجمہ: اے ہمارے پروردگار! ہم یقیناً ایمان لے آئے، پس
آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرمادیجیے اور ہمیں آگ کے
عذاب سے بچالیں۔

استغفار (۱۵)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاسْرِافِنَا فِي
أَمْرِنَا وَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .

ترجمہ : اے ہمارے رب! ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے اور ہمارے کام میں ہم سے جو زیادتی ہوئی اُس کو معاف فرما دیجیے، اور ہمیں ثابت قدم رکھیے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔

①۶ استغفار

رَبَّنَا فَارْحَمْنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا
سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ .

ترجمہ : اے ہمارے رب! ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے اور ہماری بُرائیوں کو ہم سے دور کر دیجیے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرمائیے۔

۱۷) استغفار

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَ
لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

ترجمہ: اے ہمارے رب! مجھے معاف فرمائیے اور میرے والدین
کو اور مؤمنین کو اُس روز جب کہ حساب قائم ہوگا۔

۱۸) استغفار

رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَ
اَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ.

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے پس آپ ہم کو بخش
دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے اور آپ بہترین رحم فرمانے والے
ہیں۔

استغفار (۱۹)

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ .

ترجمہ: اے ہمارے رب! آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے پس آپ معاف فرمادیجیے۔ اُن لوگوں کو جو توبہ کریں اور آپ کے راستے کی پیروی کریں اور اُن کو جہنم کے عذاب سے بچائیے۔

استغفار (۲۰)

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ

التَّوَابُ الرَّحِيمُ .

ترجمہ: اے میرے رب! مجھے بخش دیجیے اور میری توبہ قبول فرمائیے۔ بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔

(۲۱) استغفار

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ
سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي
قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ
رَءُوفٌ رَحِيمٌ .

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہم کو بخش دے اور ہمارے اُن

بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں
میں ایمان والوں کے لیے کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب! بے
شک تو بڑا شفیق اور مہربان ہے۔

(۲۲) استغفار

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ
كَفَرُوا وَ اغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہم کو کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا اور
اے ہمارے رب! ہم کو بخش دے، بے شک تو زبردست
ہے، حکمت والا ہے۔

استغفار (۳۳)

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ
دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَ
الْمُؤْمِنَاتِ.

ترجمہ: اے میرے رب! میری مغفرت فرمائیے اور میرے ماں
باپ کی مغفرت فرمائیے اور جو میرے گھر میں ایمان لا کر داخل
ہوا ایسے سب ایمان والے مردوں کی اور ایمان والی عورتوں کی
مغفرت فرمائیے۔

استغفار (۳۴)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ وَ جَهْلِيْ وَ

إِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ
بِهِ مِنِّي.

ترجمہ: اے اللہ! میری غلطی، میری جہالت اور میرے معاملے میں میری حد تجاوزی کو معاف فرمائیے۔ اور ان تمام باتوں کو معاف فرمائیے جسے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔

(۲۵) استغفار

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ عَزَائِمَ
مَغْفِرَتِكَ وَ مُنْجِيَاتِ اَمْرِكَ وَ
السَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَ الْغَنِيَّةَ
مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَ النَّجَاةَ

مِنَ النَّارِ.

ترجمہ: اے اللہ! تیری کامل مغفرت اور نجات دلانے والی چیزوں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور ہر گناہ سے سلامتی اور ہر نیکی کی رغبت اور جنت کی کامیابی اور دوزخ سے نجات کا سوال کرتا ہوں۔

(۲۶) استغفار

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ خَطِيْئَةٍ وَّ
عَمَلِيْ.

ترجمہ: اے اللہ! جان بوجھ کر کیے ہوئے اور انجانے میں کیے ہوئے میرے تمام گناہ معاف فرمائیے۔

استغفار (۲۷)

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِي
السَّبِيلَ الْأَقْوَمَ.

ترجمہ: اے میرے رب! مغفرت فرمائیے اور رحم فرمائیے اور
سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائیے۔

استغفار (۲۸)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ
وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ.

ترجمہ: اے اللہ! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرمائیے اور
مجھے عافیت بخشے اور مجھے روزی عطا فرمائیے اور میری رہنمائی
فرمائیے۔

استغفار (۲۹)

رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَ اغْسِلْ حَوْبَتِي
وَ اَجِبْ دَعْوَتِي .

ترجمہ: اے میرے رب! میری توبہ قبول فرما، میری حق تلفیوں
کو دھو دے اور میری دعا کو قبول فرما۔

استغفار (۳۰)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ ارْضَ
عَنَّا وَ اَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَ نَجِّنَا مِنَ
النَّارِ وَ اَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ .

ترجمہ: اے اللہ! ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما اور ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں جنت میں داخل فرما اور دوزخ سے ہماری حفاظت فرما اور ہمارے تمام حالات کو درست فرما۔

③۱ استغفار

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَیْرِ مَا
تَعْلَمُ وَ اَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ
اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ۔

ترجمہ: اے اللہ! تیرے علم میں جتنی خیر ہے وہ ساری خیر چاہتا ہوں اور تیرے علم میں میرے جتنے گناہ ہیں، ان سے بخشش چاہتا ہوں، تو ہی غیب کی تمام باتوں کو جاننے والا ہے۔

استغفار (۳۲)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا
اَخَّرْتُ وَ مَا اَسْرَرْتُ وَ مَا اَعْلَنْتُ وَ
مَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّي .

ترجمہ: اے اللہ! میرے اگلے، پچھلے گناہ اور چھپ کر کیے ہوئے
اور کھلم کھلا کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما اور ان گناہوں کو
معاف فرما جنہیں مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے۔

استغفار (۳۳)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ
تَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ وَ حُبِّ الْمَسَاكِيْنِ

وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي.

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے نیک کاموں کی توفیق اور گناہوں سے دوری کا سوال کرتا ہوں اور مساکین سے محبت کا جذبہ مانگتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔

(۳۴) استغفار

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوبِيْ وَ وَسَّعْ لِيْ فِيْ
دَارِيْ وَ بَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ .

ترجمہ: اے اللہ! میرے گناہ بخش دیجیے اور میرے گھر میں وسعت عطا فرمائیے اور میری روزی میں برکت عطا فرمائیے۔

۳۵) استغفار

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَ عَافِنِيْ
وَ اهْدِنِيْ وَ ارْزُقْنِيْ وَ اجْبُرْنِيْ وَ
ارْفَعْنِيْ.

ترجمہ: اے اللہ! مجھے بخش دیجیے اور مجھ پر رحم فرمائیے اور مجھے
عافیت عطا فرمائیے اور میری رہنمائی فرمائیے اور میری کمزوریوں
کو دور کیجیے اور میرے مقام کو بلند فرمائیے۔

۳۶) استغفار

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ
فِیْ دِیْنِیْ وَ دُنْیَایْ وَ اَهْلِیْ وَ مَالِیْ.

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے میرے دین و دنیا اور میرے اہل و مال میں ہونے والی کوتاہیوں سے عفو و درگزر اور معافی کا سوال کرتا ہوں۔

③۷ استغفار

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُبِيْ وَ اَخْسَا
شَيْطَانِيْ وَ فُكَّ رِهَانِيْ وَ ثَقَلِ
مِيْزَانِيْ وَ اجْعَلْنِيْ فِي النَّدِيِّ الْاَعْلٰی.

ترجمہ: اے اللہ! میرے گناہ بخش دیجیے اور میرے شیطان کو مجھ سے دور کیجیے اور میری گردن کو عذاب سے رہائی عطا فرمائیے اور میرے نامہ اعمال کو وزنی فرمائیے، مجھے بلند مقام لوگوں میں بنائیے۔

استغفار (۳۸)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَ
اجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

ترجمہ: اے اللہ! مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنائیے اور پاک
باز لوگوں میں سے بنائیے۔

استغفار (۳۹)

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ،
إِغْفِرْ لِيْ ذُنُوبِيْ وَاصْلِحْ لِيْ عَمَلِيْ
إِنَّكَ تَغْفِرُ الذُّنُوبَ لِمَنْ تَشَاءُ وَ

أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، يَا غَفَّارُ
 اِغْفِرْ لِي يَا تَوَّابُ! تُبَّ عَلَيَّ، يَا
 رَحْمَنُ! اِرْحَمْنِي، يَا عَفُوًّا! اُعْفُ
 عَنِّي، يَا رَعُوفُ! اُرْوُفْ بِي، يَا رِبِّ
 اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
 اَنْعَمْتَ عَلَيَّ.

ترجمہ: اے اللہ! تیری ذات پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی
 معبود نہیں، میرا گناہ معاف کر دے، میرے عمل کی اصلاح
 فرما دے، تو جس کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے معاف کر دیتا
 ہے اور تو بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے بہت زیادہ بخشنے

والے! مجھے بخش دے، اے توبہ قبول کرنے والے! میری
 توبہ قبول کر لے۔ اے رحمن! مجھ پر رحم فرما۔ اے بہت معاف
 کرنے والے! مجھے معاف کر دے، اے بہت زیادہ شفقت
 کرنے والے! مجھ پر شفقت فرما، اے میرے پروردگار! مجھے
 توفیق عطا فرمائیے کہ میں آپ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکریہ ادا
 کروں۔

(۴۰) استغفار

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ
 وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ
 وَالْمُسْلِمَاتِ، الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ

وَالْأَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ترجمہ: اے اللہ! تمام زندہ اور مردہ مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی اپنے رحم و کرم سے مغفرت فرما۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾

توفیق تو اللہ ہی سے ملے گی، اُسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اُسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔
[سورہ ہود]

پیارے اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کے ساتھ

100

درود شریف

صبح و شام ایک ایک مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کیجیے اس کی برکت سے دعائیں قبول ہوں گی اور یہ چند اہم فوائد بھی حاصل ہوں گے ان شاء اللہ۔

درود شریف کے فضائل و برکات

ایک مؤمن تو ہمیشہ درود شریف سے جڑا ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ الگ سے درود شریف نہ بھی پڑھے، پھر بھی اسے نماز میں درود ابراہیمی پڑھنا ہوتا ہے کیونکہ یہ نماز کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اسلام میں درود شریف کثرت سے پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جسے جتنا اپنی زندگی میں شامل کیا جائے، اتنا ہی بہتر ہے۔

درود شریف پڑھنے سے بچوں میں تقدس پیدا ہوتا ہے، وہ پاک دامن اور عفت مآب رہتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں نرمی اور پاکیزگی آتی ہے۔ ہر والدین یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے فتنے سے محفوظ رہیں، اور درود شریف کی تعلیم و ترغیب بچوں کو اسی راہ پر ڈالتی ہے۔ جب بچے درود شریف پڑھتے ہیں تو ان میں تقدس کا جوہر پیدا ہوتا ہے اور ان کی عصمت محفوظ رہتی ہے۔

درود شریف پڑھنے والے بچوں اور نہ پڑھنے والے بچوں میں واضح فرق ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے بچوں کی طبیعت میں نرمی محبت اور شفقت جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جو والدین یہ

شکایت کرتے ہیں کہ ان کے بچے اکھڑ اور سخت مزاج ہیں، ان کے لیے درود شریف بہترین علاج ہے۔ درود شریف طبیعت کی تندی اور تلخی ختم کر دیتا ہے اور محمد ﷺ کے نام کی مٹھاس دلوں میں پیدا کرتا ہے۔

حضور ﷺ کا نام شہد سے بھی میٹھا ہے اور ان کا ذکر دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ درود شریف سے انسان کی طبیعت میں نرمی اور محبت پیدا ہوتی ہے، جو سخت مزاجی اور غصے کو ختم کرتی ہے۔

والدین اگر چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد خوش اخلاقی اور نرمی سے پیش آئے، تو انہیں درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ درود شریف کی تسبیح بچوں کے ہاتھ میں دینے سے ان میں نفاست، محبت اور رقت جیسی خصوصیات پیدا ہوں گی۔ درود

شریف پڑھنے والا بچہ ذہنی اعتبار سے بھی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ درود شریف کی برکتیں اور رحمتیں اس کی ذہنی استعداد کو بڑھا

دیتی ہیں۔ گھروں میں ہفتہ وار محافل درود شریف کا اہتمام کریں، اور اس میں درود شریف پڑھا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد میں کتنی مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔

یہ تربیت کا آسان نسخہ ہے، اور اس سے دل و دماغ میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جو کبھی الٹ نہیں پڑتا، بلکہ الٹے کاموں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے۔

درود شریف دلوں کو ٹھنڈک دیتا ہے، دنیا اور آخرت کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ چراغ بھی ہے، خوشبو بھی ہے، اور سینے کی ٹھنڈک بھی ہے۔ اپنی اور اپنی اولاد کی طبیعتوں میں درود شریف کو اچھی طرح راسخ کریں، اور اس کے نتائج عشروں میں محسوس کریں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا۔ اس لیے اپنی اولاد کو درود شریف کی عادت ڈالیں اور اپنے گھروں میں روزانہ یا ہفتہ وار درود شریف کا ماحول بنائیں۔ جمعہ کے دن خاص طور پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ درود شریف کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں اور اس کی برکتیں دیکھیں۔

یہ کتابچہ پڑھنے کے ۲۰ فائدے ہیں

- ① خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت ہوگی۔ ان شاء اللہ
- ② ہر مشکل آسان ہوگی۔ ③ لاعلاج بیماری اور ہر مرض سے شفا ہوگی۔ ④ تجارت و کاروبار میں بہت برکت ہوگی۔ ⑤ مقدمہ میں کامیابی ہوگی۔ ⑥ سحر اور جادو کا اثر کاروبار، مال اور گھر کے افراد سے زائل ہوگا۔ ⑦ جنات کی شرارت سے خلاصی حاصل ہوگی۔ ⑧ بانجھ عورت یا بے اولاد مرد پڑھے، تو اولاد حاصل ہوگی۔ ان شاء اللہ ⑨ بیٹے سے محروم شخص پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیٹا پیدا ہوگا۔ ⑩ سفر میں کامیابی و سلامتی حاصل ہو کر واپسی بخیر ہوگی۔ ⑪ ملازمت بسہولت ملے گی۔ ⑫ سفر یا حضر میں اپنے پاس رکھنے سے ہر شر و آفت سے سلامتی حاصل ہوگی۔ ⑬ غیر شادی شدہ کی جلد شادی ہوگی اور نکاح کا پیغام

قبول ہوگا۔ ⑬ دلوں کو مسخّر و تابع بنانے کے لیے نہایت مفید و نافع ہے۔ ⑭ گم شدہ چیز اللہ کے حکم سے جلد مل جائے گی۔ ⑮ دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو کر تمام برائیوں سے حفاظت ہوگی۔ ⑯ ملازمت میں ترقی حاصل ہوگی۔ ⑰ جس گھر میں یہ کتاب موجود ہو، تو پیارے اللہ کے نام اور درود شریف کی برکت سے اس گھر میں رہنے والے مصائب، حوادث، غم، چوری، ڈاکے اور آگ لگنے سے محفوظ رہیں گے۔ ان شاء اللہ۔ ⑱ طالب علم پڑھے تو علم میں برکت اور امتحان میں کامیابی ہوگی۔ ⑲ حج و عمرہ کی نیت سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ حج و عمرہ کے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ ان شاء اللہ۔

نوٹ: مرد اور عورتیں اسے ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب کی جانب سے میرے پاس ابھی یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ روئے زمین پر جو کوئی مسلمان آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو میں اس پر دس رحمتیں نازل کروں گا اور میرے فرشتے اس کے لیے دس مرتبہ دعائے مغفرت کریں گے۔ [طبرانی اور ترمذی میں حدیث ہے] کتنی بڑی فضیلت ہے! سارے فرشتے ہمارے لیے دس مرتبہ دعائے مغفرت کریں گے۔ سو مرتبہ اگر ہم درود شریف پڑھیں گے جمعہ کے دن، تو کتنے فرشتے دعائے مغفرت میں لگ گئے! اس لیے جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ یہ مضمون ذہن میں بٹھالیں: کہ میرے فرشتے اس کے لیے دس مرتبہ دعائے مغفرت کریں گے۔ اسے اپنے دل میں بٹھالیں! مزہ آئے گا درود شریف پڑھنے میں؛ خاص طور سے جمعہ کے دن، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

درود شریف کے فوائد

دنیا کا سب سے اہم مقصد غموں کا دور ہونا ہے اور
 آخرت کا سب سے اہم مقصد گناہوں کا معاف ہونا ہے اور
 یہ دونوں مقاصد حاصل ہوتے ہیں درود شریف پڑھنے کی وجہ
 سے جیسا کہ حدیث میں درود شریف کی فضیلت میں
 یہ الفاظ آتے ہیں (تکفی همك ویغفر ذنبك)
 تمہارے غموں کی کفایت کی جائے گی اور
 تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے
 اس لیے درود شریف پڑھنے کا بہت اہتمام کیجیے۔

① درود شریف

يَا اَللّٰهُ جَلِّ اِلٰهِيَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

اے میرے پیارے اللہ! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور جن کی بہت زیادہ تعریف بھی کی گئی ہے۔

② درود شریف

يَا رَحْمٰنُ جَلِّ اِلٰهِيَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْبُرْهَانِ

اے رحمن! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور آپ کے برہان اور حجت بھی۔

③ درود شریف

يَا رَحِيمُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْوَرِيعِ

اے رحیم! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں
اور نیک و پاکباز بھی۔

④ درود شریف

يَا مَلِكُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْمُقَدَّسِ

اے بادشاہ! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں
اور قدسی صفات و قابلِ تعظیم بھی۔

⑤ درود شریف

يَا قُدُّوسُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ

عَلَى النَّبِيِّ الْأَمَانِ

اے پاک ذات! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی
ہیں اور سلامتی و امن کے نشان بھی۔

⑥ درود شریف

يَا سَلَامُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ

عَلَى النَّبِيِّ الْمُعَلَّنِ

اے سلام! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں
اور جنہوں نے صداقت کا اعلان کیا۔

④ درود شریف

يَا مُؤْمِنُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْمُبِينِ

اے امن و امان دینے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور جنہوں نے دین کو آسان انداز میں بیان کیا۔

⑧ درود شریف

يَا مُهَيِّئِ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْمُبِينِ

اے نگہبان! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں
اور جنہوں نے دین کو واضح انداز میں بیان کیا۔

⑨ درود شریف

يَا عَزِيزُ جَلَّ لِهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ

اے زبردست! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی
ہیں اور جن کو چن کر آپ نے سب کا پسندیدہ بنایا۔

⑩ درود شریف

يَا جَبَّارُ جَلَّ لِهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْمُتَضَرِّعِ

اے جبار! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور
گڑ گڑانے والے، عاجزی کرنے والے بھی ہیں۔

⑪ درود شریف

يَا مُتَكَبِّرُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ السَّابِقِ

اے عظمت والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی
ہیں اور نیکی اور بھلائی میں سب سے آگے بڑھنے والے ہیں۔

⑫ درود شریف

يَا خَالِقُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْبَارِعِ

اے پیدا کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور دین کے اعتبار سے ماہر اور باکمال بھی ہیں۔

⑬ درود شریف

يَا بَارِعُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْمَذْكُورِ

اے وجود میں لانے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور نصیحت کرنے والے بھی ہیں۔

⑭ درود شریف

يَا مُصَوِّرُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الشَّكَارِ

اے صورت بنانے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی
پر جو نبی بھی ہیں اور بہت زیادہ شکر کرنے والے بھی ہیں۔

⑮ درود شریف

يَا غَفَّارُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الذِّكَّارِ

اے بہت زیادہ معاف کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور آپ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے بھی ہیں۔

⑯ درود شریف

يَا قَهَّارُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الرَّهَّابِ

اے ہر چیز پر غلبہ رکھنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور آپ سے بہت زیادہ ڈرنے والے بھی ہیں۔

①۷ درود شریف

يَا وَهَّابُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْجَوَادِ

اے بہت زیادہ دینے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور بہت زیادہ سخاوت کرنے والے بھی ہیں۔

①۸ درود شریف

يَا رَزَّاقُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْأَوَّاهِ

اے بہت زیادہ روزی دینے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور اللہ کی یاد میں بڑی آہیں بھرنے والے بھی ہیں۔

①۹ درود شریف

يَا فَتَّاحُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْحَلِيمِ

اے فیصلہ کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور بڑے بردبار بھی ہیں۔

②۰ درود شریف

يَا عَلِيمُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْقَاسِمِ

اے سب کچھ جاننے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی
پر جو نبی بھی ہیں اور تقسیم کرنے والے بھی ہیں۔

۲۱) درود شریف

يَا قَابِضُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الشَّاهِدِ

اے تنگی کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور گواہی دینے والے بھی ہیں۔

۲۲) درود شریف

يَا بَاسِطُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الصَّادِقِ

اے کشادگی بخشنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور سچے بھی ہیں۔

۲۳) درود شریف

يَا خَافِضُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الشَّافِعِ

اے پست کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور سفارش کرنے والے بھی ہیں۔

۲۴) درود شریف

يَا رَافِعُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْمُعِينِ

اے بلند کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور مدد کرنے والے بھی ہیں۔

۲۵) درود شریف

يَا مُعِزُّ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْمُطِيعِ

اے عزت دینے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور اطاعت کرنے والے بھی ہیں۔

۲۶) درود شریف

يَا مُذِلُّ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ النَّذِيرِ

اے ذلت دینے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں۔

②۷ درود شریف

يَا سَيِّعُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْبَشِيرِ

اے سب کچھ سننے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور خوش خبری دینے والے بھی ہیں۔

②۸ درود شریف

يَا بَصِيرُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْأَكْرَمِ

اے سب کچھ دیکھنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور عزت و اکرام والے بھی ہیں۔

②۹ درود شریف

يَا حَكْمُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْحَكِيمِ

اے فیصلہ کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔

③۰ درود شریف

يَا عَدْلُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْحَبِيبِ

اے انصاف کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں۔

۳۱) درود شریف

يَا لَطِيفُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْخَلِيلِ

اے بندوں پر مہربان اور باریک باتوں کو جاننے والے! آپ کا درود
وسلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور اللہ کے دوست بھی ہیں۔

۳۲) درود شریف

يَا خَبِيرُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْحَكِيمِ

اے ہر چیز سے واقف! آپ کا درود وسلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔

﴿۳۳﴾ درود شریف

يَا حَلِيمُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ

اے بڑے بردبار! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی
بھی ہیں اور عزت والے بھی ہیں۔

﴿۳۴﴾ درود شریف

يَا عَظِيمُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْحَرِيصِ

اے بڑائی اور عظمت والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی
پر جو نبی بھی ہیں اور لوگوں کے ایمان کے لیے حرص کرنے
والے بھی ہیں۔

۳۵) درود شریف

يَا غَفُورُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الرَّؤُوفِ

اے بہت بخشنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور شفیق و رحم دل بھی ہیں۔

۳۶) درود شریف

يَا شَكُورُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ التَّيِّ

اے تھوڑے عمل پر بہت زیادہ دینے والے! آپ کا درود و
سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور پرہیزگار بھی ہیں۔

③۷ درود شریف

يَا عَلِيُّ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْأَمِينِ

اے بلند مرتبہ والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی
بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔

③۸ درود شریف

يَا كَبِيرُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْعَزِيزِ

اے سب سے بڑے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور عزت والے بھی ہیں۔

۳۹) درود شریف

يَا حَفِيْظُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْحَفِيِّ

اے حفاظت کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں۔

۴۰) درود شریف

يَا مُقَيِّتُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ النَّسِيْبِ

اے سب کو روزی دینے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس
ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور نسب کے اعتبار سے شریف بھی ہیں۔

﴿۴۱﴾ درود شریف

يَا حَسِيبُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْحَسِيبِ

اے حساب لینے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور بہترین حسب و نسب والے بھی ہیں۔

﴿۴۲﴾ درود شریف

يَا جَلِيلُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْفَصِيحِ

اے بڑی شان والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو
نبی بھی ہیں اور صاف ستھری زبان والے، خوش بیان بھی ہیں۔

۴۳) درود شریف

يَا كَرِيمُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الطَّيِّبِ

اے بڑے سخی! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی
ہیں اور نیک بھی ہیں۔

۴۴) درود شریف

يَا رَقِيبُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الرَّحِيمِ

اے خوب نگہبانی کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی
پر جو نبی بھی ہیں اور اپنی امت کے لیے شفیق و مہربان بھی ہیں۔

④۵ درود شریف

يَا مُجِيبُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْمُنِيبِ

اے سب کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والے! آپ کا درود
وسلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور اللہ کی طرف رجوع
کرنے والے بھی ہیں۔

④۶ درود شریف

يَا وَاسِعُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْخَاشِعِ

اے بڑی وسعت والے! آپ کا درود وسلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور عاجزی کرنے والے بھی ہیں۔

﴿۴۷﴾ درود شریف

يَا حَكِيمُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الزَّعِيمِ

اے بڑی حکمت والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور اپنی امت کے لیے امام اور پیشوا بھی ہیں۔

﴿۴۸﴾ درود شریف

يَا وَدُودُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْهَجُودِ

اے نیک بندوں سے بے حد محبت کرنے والے! آپ کا درود
و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور رات کے آخری حصے
میں نماز پڑھنے والے بھی ہیں۔

④۹ درود شریف

يَا مَجِيدُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ السَّعِيدِ

اے بزرگی والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی
بھی ہیں اور نیک بخت بھی ہیں۔

⑤۰ درود شریف

يَا بَاعِثُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الرَّاعِبِ

اے مُردوں کو زندہ کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس
ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور آخرت کا شوق رکھنے والے بھی ہیں۔

⑤۱ درود شریف

يَا شَهِيدُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الرَّشِيدِ

اے ہر جگہ موجود رہنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس
ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور نیک راستہ دکھانے والے بھی ہیں۔

⑤۲ درود شریف

يَا حَقُّ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْأَصْدَقِ

اے ثابت اور برحق! آپ کا درود و سلام ہو اس
ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور سب سے زیادہ سچے بھی ہیں۔

﴿۵۳﴾ درود شریف

يَا وَكِيلُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْجَلِيلِ

اے کام بنانے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور عزت و شان والے بھی ہیں۔

﴿۵۴﴾ درود شریف

يَا قَوِيَّ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الصَّغِيِّ

اے بڑی قوت والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور نیک صفت انسان بھی ہیں۔

⑤۵ درود شریف

يَا مَتِّينُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْخَطِيبِ

اے مضبوط اقتدار والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور عمدہ مقرر بھی ہیں۔

⑤۶ درود شریف

يَا وَليُّ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْوَفِيِّ

اے نیک لوگوں کی مدد کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو
اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور وفادار بھی ہیں۔

⑤۷ درود شریف

يَا حَمِيدُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ السَّيِّدِ

اے تمام خوبیوں کے مالک! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور دین کے اعتبار سے درست و مضبوط بھی ہیں۔

⑤۸ درود شریف

يَا مُحْصِي جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْمُعَلِّي

اے ہر چیز کو اپنے علم اور شمار میں رکھنے والے! آپ کا درود
و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور دین کے ذریعے اپنی
امت کو بلند کرنے والے بھی ہیں۔

⑤۹ درود شریف

يَا مُبْدِيْ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْمُقْرِئِ

اے پہلی بار پیدا کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی
پر جو نبی بھی ہیں اور بہترین قاری بھی ہیں۔

⑥۰ درود شریف

يَا مُعِيدُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْمَجِيدِ

اے دوبارہ زندہ کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس
ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور بڑی عزت و شان والے بھی ہیں۔

⑥۱ درود شریف

يَا مُحْيِي جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْمُهْدِي

اے زندہ کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور ہدایت یافتہ بھی ہیں۔

⑥۲ درود شریف

يَا مُمِيتُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْمُنِيرِ

اے موت دینے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور روشن چہرے والے بھی ہیں۔

۶۳) درود شریف

يَا حَيُّ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْوَلِيِّ

اے ہمیشہ زندہ رہنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور اپنی امت کے لیے سرپرست بھی ہیں۔

۶۴) درود شریف

يَا قَيُّوْمُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْمَنْصُورِ

اے سب کو تھامنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور کامیاب بھی ہیں۔

⑥۵ درود شریف

يَا وَاحِدُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْكَامِلِ

اے غنی اور بے نیاز! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی
بھی ہیں اور ہر اعتبار سے مکمل انسان بھی ہیں۔

⑥۶ درود شریف

يَا مَا جِدُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْعَابِدِ

اے بزرگی والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی
بھی ہیں اور سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بھی ہیں۔

⑥۷ درود شریف

يَا وَاحِدُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْقَائِدِ

اے اپنی ذات و صفات میں یکتا! آپ کا درود و سلام ہو اس
ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور بہترین رہبر بھی ہیں۔

⑥۸ درود شریف

يَا أَحَدُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْأَحْمَدِ

اے اکیلا اپنی ذات و صفات میں یکتا! آپ کا درود و سلام ہو
اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور پیارے اللہ کی بہت زیادہ تعریف
کرنے والے بھی ہیں۔

⑥٩ درود شریف

يَا صَمَدُ جَلَّ لِهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْبَشَرِ

اے بڑے بے نیاز! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔

⑥٠ درود شریف

يَا قَادِرُ جَلَّ لِهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الشَّاكِرِ

اے بڑی قدرت والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور شکر کرنے والے بھی ہیں۔

④۱ درود شریف

يَا مُقْتَدِرُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْمُقْتَصِدِ

اے قدرتِ کاملہ رکھنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس
ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور درمیانی و سیدھے راستے پر چلنے
والے بھی ہیں۔

④۲ درود شریف

يَا مُقَدِّمُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْمُقَدِّمِ

اے آگے بڑھانے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس
جو نبی بھی ہیں اور دین کے اعتبار سے سب سے آگے بھی ہیں۔

④۳ درود شریف

يَا مُؤَخَّرُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْمُبَشِّرِ

اے پیچھے ہٹانے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور خوش خبری دینے والے بھی ہیں۔

④۴ درود شریف

يَا أَوَّلُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْأَجْمَلِ

اے سب سے پہلے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور نہایت حسین و جمیل بھی ہیں۔

④۵ درود شریف

يَا اٰخِرُ جَلَّالٌ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الذَّاكِرِ

اے سب سے پچھلے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور ذکر کرنے والے بھی ہیں۔

④۶ درود شریف

يَا ظَاهِرُ جَلَّالٌ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الزَّاهِرِ

اے خوب نمایاں! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی
بھی ہیں اور انتہائی خوبصورت، چمک دار اور خوش نما بھی ہیں۔

④④ درود شریف

يَا بَاطِنُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْأَمِينِ

اے نہایت پوشیدہ! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور امن و سلامتی والے بھی ہیں۔

④⑤ درود شریف

يَا وَالِي جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الرَّاجِي

اے سب پر حکومت کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس
ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں۔

④۹ درود شریف

يَا مُتَعَالِي جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ التَّالِي

اے بہت بلند و برتر! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی
بھی ہیں اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے بھی ہیں۔

④۰ درود شریف

يَا بَرُّ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

اے نیک سلوک کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی
پر جو نبی بھی ہیں اور کسی استاذ سے پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں۔

⑧۱ درود شریف

يَا تَوَّابُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْحَمَّادِ

اے توبہ قبول کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور پیارے اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے بھی ہیں۔

⑧۲ درود شریف

يَا مُنْتَقِمُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْمُبْتَهِلِ

اے بدلہ لینے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور پیارے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بھی ہیں۔

۸۳) درود شریف

يَا عَفُوُّ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ

عَلَى النَّبِيِّ السَّيِّدِ

اے بہت معاف کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی
پر جو نبی بھی ہیں اور سردار بھی ہیں۔

۸۴) درود شریف

يَا رَءُوفُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ

عَلَى النَّبِيِّ الْعُطُوفِ

اے خوب شفقت کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس
ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور اپنی امت کے لیے انتہائی شفیق و
مہربان بھی ہیں۔

⑧۵ درود شریف

يَا مَالِكُ الْمَلِكِ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْحَامِدِ

اے سارے جہاں کے مالک! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور پیارے اللہ کی تعریف کرنے والے بھی ہیں۔

⑧۶ درود شریف

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ جَلَّالُهُ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ الْهُبَامِ

اے عظمت و جلال اور انعام و اکرام والے! آپ کا درود و سلام
ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور بہادر بھی ہیں۔

⑧۷ درود شریف

يَا مُقْسِطُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْلِحِ

اے انصاف کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور اپنی امت کی اصلاح کرنے والے بھی ہیں۔

⑧۸ درود شریف

يَا جَامِعُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْخَاصِ

اے قیامت کے دن سب کو جمع کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور عاجزی کرنے والے بھی ہیں۔

⑧۹ درود شریف

يَا غَنِيُّ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ السَّخِيِّ

اے بڑے بے نیاز! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور سخاوت کرنے والے بھی ہیں۔

⑨۰ درود شریف

يَا مُغْنِيُّ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْمُرْتَضَى

اے بے نیاز کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور پیارے اللہ کے محبوب و پسندیدہ بھی ہیں۔

⑨۱ درود شریف

يَا مَانِعُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْإِمَامِ

اے روکنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی
بھی ہیں اور اپنی امت کے لیے رہبر و پیشوا بھی ہیں۔

⑨۲ درود شریف

يَا ضَارُّ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْآخِرِ

اے نقصان پہنچانے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور سب سے آخری نبی بھی ہیں۔

۹۳) درود شریف

يَا نَافِعُ جَلَّ لَهُ صَلِّ وَسَلِّمْ

عَلَى النَّبِيِّ الصَّالِحِ

اے نفع پہنچانے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور نیک و صالح بھی ہیں۔

۹۴) درود شریف

يَا نُورُ جَلَّ لَهُ صَلِّ وَسَلِّمْ

عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى

اے نہایت روشن اور سارے جہاں کو روشن کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور برگزیدہ و پسندیدہ بھی ہیں۔

⑨۵ درود شریف

يَا هَادِيَّ جَلَّالَهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الدَّاعِي

اے ہدایت دینے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور دین کی دعوت دینے والے بھی ہیں۔

⑨۶ درود شریف

يَا بَدِيعُ جَلَّالَهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْبَهِيِّ

اے بغیر نمونہ کے پیدا کرنے والے! آپ کا درود و سلام ہو
اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور نہایت خوبصورت بھی ہیں۔

⑨٧ درود شریف

يَا بَاقِي جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الْمَاحِي

اے ہمیشہ باقی رہنے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور برائیوں کو مٹانے والے بھی ہیں۔

⑨٨ درود شریف

يَا وَارِثُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الصَّادِقِ

اے تمام چیزوں کے مالک! آپ کا درود و سلام ہو اس ہستی پر
جو نبی بھی ہیں اور سچے بھی ہیں۔

﴿۹۹﴾ درود شریف

يَا رَشِيدُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الرَّشِيدِ

اے سیدھا راستہ دکھانے والے! آپ کا درود و سلام ہو اس
ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور ہدایت یافتہ بھی ہیں۔

﴿۱۰۰﴾ درود شریف

يَا صَبُورُ جَلَّالُهُ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ الشَّكُورِ

اے بڑے بردبار اور برداشت کرنے والے! آپ کا درود و
سلام ہو اس ہستی پر جو نبی بھی ہیں اور بہت زیادہ شکر کرنے
والے بھی ہیں۔

اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کیجئے یہ علماء کا بتایا ہوا مجرب عمل ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کی رات میں اگر کوئی آدمی دو رکعت پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھے، پھر سلام پھیر کر 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ
عَدَدَ خَلْقِكَ، وَرِضَا نَفْسِكَ،

وَزِنَةَ عَرْشِكَ، وَمَدَادَ كَلِمَاتِكَ

تین جمعہ تک اگر کوئی مسلسل یہ عمل کرے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔

نوٹ: یہ نسخہ حدیث شریف میں نہیں ہے بلکہ سلف صالحین کے تجربات میں سے ہے۔

1977 میں مسجد نبوی میں پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا تب
مراکش کے ایک بڑے میاں نے مجھے یہ درود شریف سکھایا تھا یہ
درود شریف کا صیغہ حدیث میں نہیں ہے یہ درود شریف پڑھنے کا
اہتمام کیجیے بہت فائدہ ہوگا ان شاء اللہ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَبْنِ
عَبْدِ اللّٰهِ الْقَائِمِ بِحَقِّ اللّٰهِ مَا ضَاقَ
اَمْرُ الْاَلَا فَرَّجَهُ اللّٰهُ

ترجمہ: اے میرے پیارے اللہ! رحمت بھیجے ہمارے آقا محمد ابن
عبداللہ پر جو اللہ کے حق پر قائم ہیں اور جب بھی کسی معاملہ میں تنگی
آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ختم کر دیتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ ہمارے گھرانے پر درود شریف پڑھے تو اُس کا ثواب بہت بڑے پیمانے میں ناپا جائے تو وہ ان الفاظ سے درود شریف پڑھا کرے:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَاَزْوَاجِهِ
اُمَمَّاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ

ترجمہ: اے میرے پیارے اللہ! حضرت محمد ﷺ پر اور حضرت محمد ﷺ کی بیویوں پر جو کہ مومنین کی مائیں ہیں اور آپ ﷺ کی نسل پر اور آپ ﷺ کے سب گھر والوں پر رحمت نازل فرمائیے جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائی بے شک آپ تعریف کے مستحق عظمت والے ہیں۔ (ابوداؤد)

شب جمعہ اور جمعہ کے دن کثرت سے
درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر
درود شریف پڑھا کیجیے کیونکہ ہر جمعہ کو میری امت کا درود مجھ پر پیش
کیا جاتا ہے جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ مرتبہ کے لحاظ سے
اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوگا۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے
کے تین درجے ہیں۔

ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ 300 مرتبہ پڑھ لیجیے

درمیانی درجہ یہ ہے کہ 1000 مرتبہ پڑھ لیجیے

اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ 3000 مرتبہ پڑھ لیجیے

اس لیے جمعہ کے دن 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے

کثرت سے درود شریف پڑھنے میں شمار ہو جائے گا اگر 3000

ہزار مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 1000 مرتبہ پڑھ لیجیے ورنہ کم از کم

300 مرتبہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے۔

یہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیجیے

بہت فائدہ ہوگا ان شاء اللہ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَصَلَّ عَلٰی
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ
ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ

ترجمہ: اے میرے پیارے اللہ! تو رحمتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی ذکر کرنے والے ذکر کریں اور تو رحمتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی ذکر سے غافل لوگ غفلت کریں۔

کینسر، شوگر، بلڈ پریشر اور تمام لاعلاج بیماریوں کیلئے یہ درود شریف صبح شام گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر اور پانی، کھانا، دوا سب پر دم کر کے پھر استعمال کریں بہت فائدہ ہوگا ان شاء اللہ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ
كُلِّ دَاۤءٍ وَّ دَوَاۤءٍ وَّ بَارِكْ وَسَلِّمْ

ترجمہ: اے میرے پیارے اللہ! تو رحمت نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر، ہر بیماری اور دوا کی تعداد کے برابر اور برکتیں اور سلام نازل فرما۔

نوٹ: یہ نسخہ حدیث میں نہیں ہے سلف صالحین کے تجربات میں سے ہے اس کا پرنٹ نکال کر لوگوں میں تقسیم کیجیے بہت فائدہ ہوگا ان شاء اللہ


درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعائے مانگنے کا اہتمام کیجیے
 رسول اللہ ﷺ کی شفاعت واجب ہوگی ان شاء اللہ
 رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرا جو امتی مجھ پر درود بھیجے
 اور ساتھ ہی یہ دعا کرے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب
 ہوگی۔

اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْبَقْعَدَ الْبُقَرَّبَ
 عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ترجمہ: اے میرے پیارے اللہ! ان کو یعنی اپنے نبی حضرت محمد
 ﷺ کو قیامت کے دن اپنے قریب کی نشست گاہ یعنی کرسی عطا
 فرمائیے۔ [مسند احمد]

بعض لوگوں کو بھولنے کی عادت بہت ہوتی
 ہے چیزیں بھول جاتے ہیں اسے نسیان
 کہتے ہیں اس کا علاج علماء نے لکھا ہے
 درود شریف بہت پڑھیں۔

[یہ مضمون برکات المکیہ میں لکھا ہوا ہے]
 اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی برائی سے
 محفوظ رکھے آمین



یہ کتاب چھپ کر آگئی ہے اگر کسی کو چھاپنا ہو تو

اس نمبر: **+91 90493 56753**

پر رابطہ کیجیے وہ آپ کو بھیج دیں گے ان شاء اللہ

روزانہ صبح شام ایک ایک مرتبہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کیجیے، اور اگر کسی وجہ سے اسے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اسے اپنے پاس رکھنے سے بھی فائدہ ہوگا ان شاء اللہ اسے پڑھنے اور اپنے پاس رکھنے کے کچھ فوائد پیش خدمت ہیں:

آسیب، سحر، کالا جادو، جنات، گھبراہٹ، بے چینی، ٹینشن، ڈپریشن، راتوں کو نیند نہ آنا کسی چیز میں دل نہ لگنا، خودکشی کے خیالات آنا، نظر بد اور دوسری تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے اور حفاظت کے لیے بہت ہی مجرب ترین ہے اس کی برکت سے شادیاں بھی ہوں گی اور روزی میں بھی خوب برکت ہوگی ان شاء اللہ یہ ایک قسم کا تعویذ بھی ہے اور کتابچہ بھی ہے۔ اسے اپنے پاس محفوظ فرمالیجیے۔



INSTAGRAM FOLLOW
MAULANA YUNUS PALANPURI



CHANNEL NAME
KHALID PALANPURI
MOHAMMED AHMED PALANPURI
ABDULWASEE PALANPURI